

اردو گا اسلامی ادب

ڈاکٹر فضل الرحمن

[یہ خطبہ صدارت پاکستان اردو اکادمی، کراچی کے سالانہ اجلاس منعقدہ
۱ نومبر ۱۹۶۲ء میں پڑھا گیا۔]

مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کے ساتھ جب جزیرہ عرب سے باہر اسلام پہلا تو اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ عربی زبان بھی اس کے ساتھ ساتھ پہلی - قرآن تو عربی میں تھا ہی - شروع میں اسلام کے تمام اساسی علوم بھی عربی ہی میں مدون ہوئے۔ پہلی ڈیڑھ دو صدیوں کے اندر اندر عربوں نے، جن کے پاس کچھ اشعار اور خطبوں کو چھوڑ کر اپنی کوئی علمی روایات نہ تھیں اور جن کی فکری سطح بھی برائے نام ہی تھی، قرآن کریم کی برکت سے عربی میں دینی علوم، تاریخ، آثار اور فقہ جیسے فون مدون کرڈالی - فقہ خالص عقلی اور ذہنی اعتبار سے انسانیت کے مهم بالشان کارناموں میں سے ہے۔ پھر اگلی ڈیڑھ صدی میں عربوں کے ہاں خالص فکر نے اتنی سوعت سے ترقی کی کہ ایک طرف فارابی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے مفکر اور فلسفی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف اس فکر خالص کے دھارے کے عمل اور رد عمل سے دینی افکار متاثر ہوئے۔ اور اس طرح مسلمانوں کا علم کلام معرض وجود میں آیا۔ علم کلام فکر کے میدان میں اہل دین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ سب کچھ کوئی تین صدیوں کے اندر اندر ہوا۔

اس دور کے بعد بھی اگرچہ عربی ہی عالم اسلامی کی مرکزی دینی اور علمی زبان رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دوران میں مسلمان ملکوں میں اور زبانوں نے بھی اپنے ادب کی تخلیق شروع کر دی۔ سب سے پہلے فارسی نے اپنے آپ کو ادب کا ذریعہ اظہار بنانکر ایران کی ثقافتی خود اختیاری کا گویا رسمی اعلان کیا۔ اس کے بعد ترکی نے بھی یہی کیا۔ اس ضمن میں ان دونوں زبانوں نے عربی الفاظ کو آزادانہ طور پر اپنے اندر سمویا اور اس طرح ان

تینوں میں ایک گونہ مماثلت رہی۔ ان صدیوں میں علمی اور دینی زبان اساساً عربی ہی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی اردو زبان کی نشوونما ہے۔ اردو نہ صرف عربی اور فارسی سے بہت متاثر ہے بلکہ یہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے ثقافتی ماحول میں پروان چڑھی۔ اس لئے ان خاص معنوں میں یہ ایک ”اسلامی“ زبان ہے۔ تقریباً یہی عمل ہمیں مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان پر ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ ہے بھی ناگزیر، کیونکہ اگر ہمیں پاکستان کی ثقافتی وحدت کو کسی قابل لحاظ معنی میں قائم کرنا ہے تو بنگالی زبان کا اسلامی ثقافت سے روز افزون تاثیر قدرتی ہے۔ شاید یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مشرقی افریقہ میں سواحلی زبان بھی اسی اسلوب پر ترقی کرتی نظر آتی ہے۔ ہم یہاں اجمالی طور پر اردو میں اسلامی ادب کے ارتقاء پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کچھ گزارشات کریں گے۔

اردو کا ابتدائی ادب اساسی طور پر شاعری تک محدود ہے۔ اس میں غزل قصیدے مرثیے، سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ کہنا یہ جا نہ ہوگا کہ یہ ادب، اردو کے قالب میں فارسی شاعری کا پورا عکس ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فارسی شاعری کی طرح دینی رنگ بھی پایا جاتا ہے، کچھ تو خالص دینی موضوعات کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ بہت سے معیاری استعارات اور تشبیہات وغیرہ کا مأخذ دینی تصورات ہیں اور بسا اوقات ان کو متصوفانہ رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایرانی اسلامی ثقافت کا خصوصی امتیاز ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ مجض شاعری کی زبان پوری طرح دینی موضوعات کا ذریعہ اظہار نہیں بن سکتی، کیونکہ دین کے بعض اہم فکری اور علمی تقاضے ہیں، جو خاص طور پر ترقی یافته نشر کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ مجض احساسات کی زبان اور منتشر خیالات کی زبان میں پورے نہیں ہوسکتے۔ یہ علمی اور فکری تقاضے ایک تو ایسی زبان چاہتے ہیں، جو منظم افکار کا ذریعہ اظہار بن سکے اور دوسرے یہ تقاضے اس قسم کے ہیں جو نہ صرف خیالات کی تنظیم و ترتیب چاہتے ہیں۔ بلکہ خیالات کی تجزید بھی۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جن کے بغیر لہ تو در حقیقت کوئی ثقافت اعلیٰ بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے اور نہ فکر خالص ہی کی متحمل ہوسکتی ہے، چہ جائے کہ وہ اس کی تخلیقی

کرنے، زبان کو ایک بالکل دوسری سطح پر لانا ضروری ہوتا ہے۔

خوش قسمتی سے اردو میں دینی اور تاریخی نثر جلد ہی شروع ہو گئی تھی۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ پہلی بار شاہ ولی اللہ دھلوی کے صاحبزادے شاہ رفع الدین نے کیا۔ اور اسی زمانے میں اردو میں یقیناً مواعظ وغیرہ بھی آئے لگے۔

انیسویں صدی اور بالخصوص اس کے نصف آخر میں اردو ادب نے اپنے ارتقا کے بنیادی مرحلے طے کر لئے لیکن اردو منظم فکر کا ذریعہ اظہار صحیح معنوں میں اس وقت بنی، جب سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس سے ایک دینی علمی تحریک کی خدمت کا کام لینا شروع کیا۔ سر سید اور حالی نے اردو زبان کو سلاست بخشی اور شوکت الفاظ پر زور دینے کے بجائے اسے معانی کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اور اس میں بلند، لطیف اور پیچیدہ خیالات پیش کئے۔ سر سید نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور مولانا نذیر احمد نے قرآن مجید کا با محاورہ اردو میں ترجمہ کیا۔ لیکن شبی وہ بزرگ ہیں جن کے قلم گوہر بار نے واقعی اردو کا دامن موتیوں سے بھر دیا۔ شبی اسلامی تاریخ اور ادب فارسی پر کامل عبور رکھتے تھے۔ اسلامی علم کلام کے صحیح ارتقاء کی روشنی میں انہوں نے ایک جدید علم کلام (جو کوئی جدلی چیز نہیں بلکہ اثباتی طور پر اسلامی عقائد کی صداقتوں کے عقلی انداز میں بیان کا دوسرا نام ہے) کی بنیاد ڈالنے کی کوشش بھی کی لیکن افسوس کہ اس سلسلے میں سر سید احمد خان اور شبی کی کوششوں بہت حد تک ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں اور ان کے بعد سوائیں اقبال کے اسلام کو عقلی انداز میں پیش کرنے والے کسی نمائندہ مفکر کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن شبی اور ان کے تابعین (ندوہ میں اور غیر ندوہ میں) کا کام بنیادی طور پر تاریخ اسلام ہی کے میدان تک محدود رہا۔ یہ شک ان حضرات نے سیر اور سوانح (Biographies) کے باب میں بالخصوص پیش بھا کام کیا ہے۔ شبی کی سیرت النبی ص اور سوانح و سیر میں ان کی دوسری تصنیفات اردو ادب میں کلاسیک حیثیت حاصل کرچکی ہیں۔

تاریخ اسلام کے موضوع پر اردو کے یہ شتر ادبی کارناموں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ تاریخ صرف سوانح و سیر کا نام نہیں ہے اور نہ صرف واقعات کا

بیان کر دینا ہی تاریخ ہے ۔ بلکہ تاریخ عبارت ہے ایک قوم یا امت کے عروج اور انحطاط کی منظم اور معقول شرح و بیان سے ۔ یہاں ”معقول“ سے مراد یہ ہے کہ ظاہری واقعات کے پس پشت جنمیں ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں جو دینی، سماجی اور اقتصادی قوتیں ایک معاشرے میں کارفرما ہوتی ہیں ان کے آپس میں عمل اور تعامل کا پورا جائزہ لیا جائے ۔ یہ تعریف جسے بالعموم علم تاریخ کی ”جدید“ تعریف کہا جاتا ہے، خود مسلمانوں کے ذہن کی تخلیق ہے اور اب خلدون اس کا بانی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو اس نظر سے دیکھیں تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اردو میں آج تک اس نقطہ نظر کا ایک بھی قابل ذکر مورخ پیدا نہیں ہوا ۔ اور جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، حقیقت یہ ہے کہ جب تک فکر میں تجرید کی خصوصیت پیدا نہ ہو، یعنی وہ انسانی مخصوصات کی سطح سے اوپر معانی کی سطح پر غور و خوض کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اور اس میں زبان اس کا ساتھ نہ دے تو صحیح معنوں میں ایسی تاریخ لکھی نہیں جاسکتی ۔

اُس تمام عرصے میں تصنیفات کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں دیگر زبانوں سے ترجمے کا سلسلہ بھی برا بر جاری رہا اور قدیم اور جدید علوم کی کتابیں اردو میں منتقل ہو کر اس کے ادب کی ثروت میں اضافہ کرتی رہیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک زبان کی نشو و نما اور ترقی میں ترجمہ کے عمل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ اس ضمن میں حیدر آباد دکن میں اردو کی بڑی ہی خدمت ہوئی اور وہاں تمام جدید علوم کی کتابیں اردو میں منتقل کی گئیں ۔ ترجمے کے پیغمبیر عمل سے اردو میں جدید طرز کی لغات لکھنے کا وسٹہ بھی ہموار ہوا ۔ اور اس سلسلے میں مولانا عبدالحق مرحوم کی کوششیں بڑی کامیاب رہیں ۔ پاکستان کے وجود میں آئے کے بعد ترجموں میں اور بھی معتدله اضافہ ہوا لیکن یہاں یہ کہنا یہ جا نہ ہو گا کہ جدید علوم سے ترجمے کا کام ابھی کافی حد تک تشنہ تکمیل ہے اور بالخصوص فکر خالص کی سطح پر تو یہ کام تقریباً مفقود ہے ۔ اگرچہ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہئیے کہ زبان کی تخلیق کا کام کوئی ایسا کام نہیں جو صرف ایک دو نسلوں میں انجام پائے اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا ہے، عربی زبان کو فکر خالص میں تخلیقی عمل تک

پہنچنے کے لئے کوئی تین صدیاں لگ گئی تھیں۔ تاہم یہ بتادینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی زبان اس وقت تک اعلیٰ ثقافت کی ترجمان نہیں بن سکتی جب تک کہ اس میں فکر خالص کی تخلیق اور اظہار کی قوت نہ ہو۔

جب عربوں نے یونان کے ذخیرہ علم کو عربی میں منتقل کرنا شروع کیا تو انہوں نے روز اول ہی سے نہ صرف سائنسی اور فنی علوم مثلاً طب، ریاضی اور ہندسه وغیرہ کی طرف توجہ کی بلکہ یونانیوں کے فکر خالص کے نتائج یعنی ارسطو اور افلاطون کے فلسفہ کو بھی عربی میں منتقل کرنے کی بیاناد رکھی۔ اسی طرح جب لاطینی مغرب نے مسلمانوں کے علوم کو اخذ کیا تو اس نے طب اور دیگر طبعی علوم کے علاوہ مسلمانوں کے فکر خالص کو بھی ابتدا ہی سے لاطینی میں منتقل کرنا شروع کیا بلکہ ابن سینا کے فلسفے کا ترجمہ اس کی طبی علوم پر مشتمل کتاب ”قانون“ سے پہلے کیا گیا۔ ابن سینا کے علم النفس کا ترجمہ سنہ ۱۱۵۰ء میں ”تولیدو“ (سپین) میں ہوا تھا۔ انہی تراجم کی بیاناد پر یورپ کی نشانہ ٹائیہ (Renaissance) وجود میں آئی۔ اسی طرح جب یورپ کی جدید زبانیں ترقی کرنے لگیں تو ان میں عام علم اور فکر خالص کے ترجمے اور تخلیق پر جتنا زور دیا گیا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔

انسانی فکر یا فکر خالص کی کچھ بینیادی خصوصیات کا ذکر تو ہم اوپر کر آئئے ہیں۔ یعنی یہ فکر ایک منظم چیز ہے۔ یہ منشر تصورات اور خیالات کا نام نہیں۔ یہ شک ہمارے شعری ورثی میں مثال کے طور پر بسا اوقات نہایت گھمہ رے خیالات اور انمول تصورات ملتے ہیں، لیکن چونکہ یہ منظم نہیں ہوتے، اس لئے یہ فکر کی تعریف میں نہیں آتی۔ فکر کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک روان اور سیال دھارا ہوتا ہے جو ہمیشہ نئے تصورات کی تخلیق کرتا ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ فکر اگرچہ علم پر تمام تر مبنی ہوتا ہے لیکن یہ علم سے جدا بھی ہے۔ کیونکہ علم نام ہے دوسروں کے ذہنوں کے پیدا کردہ افکار اور نتائج کے مجموعے کا، جسے ہم کتابوں وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس فکر ایک تخلیقی اور سیال رو ہے جو آگے کی طرف بہتی ہے اور علم کی تخلیق کرتی ہے۔ ہم جتنا بھی علم پڑھ لیں، وہ فکر کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے قرآن حکیم ہمیں

علم اور فکر دونوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ فکر علم کا نام نہیں اس لئے فکر محض اصطلاحات سے عبارت نہیں ہوتا یقیناً اصطلاحات کے ترجمے فنون کے لئے از بس ضروری ہیں۔ لیکن جہاں تک فکری ارتقاء کا تعلق ہے، اس میں ان کی معاونت بہت محدود ہے۔ ”اصطلاح“ ایک منجمد تصور کو کہتے ہیں، بلکہ اصطلاحات ایک قسم کے نام ہیں تصورات کے۔ مثلاً ایک شخص کا نام ”زید“ رکھ دیا جائے، تقریباً اسی طرح ایک تصور کا نام اس کی اصطلاحی شکل ہوتی ہے۔ لیکن ایک اصطلاح سے اس تصور کی جامد شخصیت کا تو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی شناخت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے اس کے زندہ کردار کا پتہ نہیں چلتا جس طرح کہ اس کے حقیقی استعمال اور سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ فکر خالص کو ترقی دینے کے لئے اصطلاحات سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ فکر خالص کی کوششوں کی زبان و ادب میں ترجمانی ہو اور یہ ترجمانی ایسی ہو جس سے اس کی اصلی فکری زندگی اجاگر ہو سکے۔

فکر خالص کی جو خصوصیت ہم نے اوپر بیان کی ہے کہ وہ ایک روان اور سیال دھارے کا نام ہے وہ اس کے بغیر کبھی بروئے کار نہیں آسکتی کہ اس کی یہ حیاتیاتی (Organic) خصوصیت ترجموں میں بھی موجود ہو اور تخلیقی کاموں میں بھی۔

دور حاضر کے سب سے بڑے اسلامی مفکر علامہ اقبال ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے اپنے منظم اور خالص فکر کے لئے اردو کو نہیں بلکہ انگریزی زبان کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا ہے ان کے نتائج فکر و ذہن کا سب سے زیادہ مؤثر اور تاریخ آفرین پہلو ان کی شاعری ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ”شعر کو فکر خالص کے لئے کبھی واضح ذریعہ نہیں بنایا جاسکتا۔ اس لئے ان کے منظم اور حیاتیاتی (Organic) فکر کی جلیل القدر کتاب انگریزی میں ہے (اگرچہ وہ اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے) لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر خالص کی زبان اردو کو بنایا جائے۔ اور اس میں تخلیقی تصنیفات ہوں۔“

آپ سوال کریں گے کہ زیر بحث موضوع تو تھا ”اردو کا اسلامی ادب“

لیکن ہم نے اس کا تھوڑا سا تاریخی خاکہ بیان کرنے کے بعد فکر خالص اور اس کے اردو میں براہ راست ضرورت اظہار کی بحث کیوں چھیڑ دی۔ اس کا جواب اب میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اردو میں فکر خالص کی ترقی نہیں ہوتی اور اردو اپنے اندر اس کے اظہار کی اہلیت پیدا نہیں کر لیتی، نیز فکر خالص کے نتائج جب تک اردو کے قالب میں نہیں منتقل ہوتے، اس وقت تک اردو میں اعلیٰ فکر صحیح معنوں میں اسلامی بنیاد پر ترقی نہیں کرسکتا۔ دینی فکر کے صحیح اور معنے خیز ارتقا کے لئے ضروری ہے کہ عام علم اور فکر خالص دونوں ترقی کریں۔ جب دین اور علم و فکر کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوسکتے ہیں اور دینی فکر کا تخلیقی عمل اعلیٰ پیمانہ پر شروع ہوسکتا ہے۔

ہم ابتداء میں بیان کرچکے ہیں کہ علم و فکر کی جو تحریک اسلام کی ابتدائی صدیوں میں پہلی پھولی اس کے دوش بدش اور اس کے اور دینی فکر کے باہمی عمل و تعامل کے بعد ہی دینی فکر نے ترقی کی اور اس کے نتیجے میں علم کلام یا اسلامی فکر وجود میں آیا اور ان میں سے بعض کے عقائد سے قطع نظر واصل بن عطا، نظام، ابن حزم، غزالی اور رازی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔

آج ہم جس دور سے گذر رہے ہیں، دنیا کی ہر ایک قوم کو اس دور سے گذرنا پڑا ہے لیکن اس میں وہی قوم عروج پر پہنچی ہے، اسی قوم نے سر بلندی حاصل کی ہے، اور اسی قوم کا علمی سکھ دنیا میں چلا ہے، جس نے علوم و فنون سے اپنے دامن کو بھرا اور فکری سطح پر وہ اتنی بلندی پر پہنچی کہ دنیا کی ہر قوم اس کے افکار کو ماننے پر مجبور ہو گئی۔

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر
تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ